

# Psa

## Chapter 18

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

הַשִּׁירָה	דְּבָרֵי	אֶת-	לְיְהוָה	וְדָבַר	אֲשֶׁר	לְדָוִד	יְהוָה	לְעֶבֶד	אֶל־מִנְצֵחַ	1
-گیت	کلام	کو	-یہوواہ سے	بولا	جس نے	داؤد کا	یہوواہ کے	بندے	-سالار کے لیے	
<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H5329</a>			
שָׁאוּל:	וּמִיָּד	אֵיבָיו	כָּל-	מִכָּה	אוֹתוֹ	יְהוָה	הַצִּיל-	בְּיָד	הַיָּמִן	
ساول کے	اور ہاتھ سے	اُس کے دشمنوں	سب	ہاتھ سے	اُسے	یہوواہ نے	بچایا	-دن میں	اِس	
<a href="#">H7586</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2063</a>	
			חֲזָקִי:	יְהוָה	אֶרְחַמֶּנָּה	וְיֵאמֵר				
			میری قوت	اے یہوواہ	میں محبت کرتا ہوں تجھ سے	اور اُس نے کہا				
			<a href="#">H2391</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7355</a>	<a href="#">H0559</a>				

رب اے بولا، وہ بچایا۔ سے ساول اور دشمنوں تمام اُسے نے رب جب گایا گیت یہ لئے کے رب نے داؤد لئے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد خادم کے رب ہوں۔ کرتا پیار تجھے میں قوت، میری

בּוֹ	אֲחֶסְהָ-	צָוְרִי	אֱלֹהֵי	וּמַפְלִטִי	וּמְצַדִּיקִי	סָלְעִי	יְהוָה	2
اُس میں	میں پناہ لوں گا	میری چٹان	میرا خدا	اور میرا چھڑانے والا	اور میرا قلعہ	میری چٹان	یہوواہ	
<a href="#">H2620</a>	<a href="#">H6697</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H6403</a>		<a href="#">H5553</a>	<a href="#">H3068</a>		
			בְּשֹׁנֵי:	יְשׁוּעִי	וּקְרָן-	מִנְיָ		
			میری پناہ گاہ	میری نجات کا	اور سینگ	میری ڈھال		
			<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H4043</a>				

بلند میرا پہاڑ، کا نجات میری ڈھال، میری وہ ہوں۔ لیتا پناہ میں جس ہے چٹان میری خدا میرا ہے۔ دہندہ نجات میرا اور قلعہ میرا چٹان، میری رب ہے۔ حصار

אֲנִישֵׁ:	אֵיבָיו	וּמִן-	יְהוָה	אֶקְרָא	מִהַלָּל	3
میں بچایا جاؤں گا	میرے دشمنوں	اور سے	یہوواہ کو	میں پکاروں گا	حمد کے لائق	
<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7121</a>			

ہے۔ دیتا چھٹکارا سے دشمنوں مجھے وہ تب ہوا! تمجید کی اُس ہوں، پکارتا کو رب میں

יְבַעֲתוּנִי:	בְּלִיעַל	וְנַחֲלִי	מָוֶת	חֲבָלִי-	אֶפְפוּנִי	4
ڈرایا مجھے	تباہی کے	اور سیلاب	موت کی	رسیوں نے	گھیر لیا مجھے	
<a href="#">H1204</a>	<a href="#">H1100</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H0661</a>			

کی طاری دہشت پر دل میرے نے سیلاب کے ہلاکت لیا، گھیر مجھے نے رشوں کے موت

מָוֶת:	מִזְקָשִׁי	קָדְמוֹנִי	סִבְבוֹנִי	שָׁאוּל	חֲבָלִי	5
موت کے	پھندے	سامنے آئے میرے	گھیر لیا مجھے	پاتال کی	رسیاں	
<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H4170</a>	<a href="#">H6923</a>	<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H7585</a>		

دیئے۔ ڈال پھندے اپنے میں راستے میرے نے موت لیا، جکڑ مجھے نے رشوں کے پاتال

מִהַיְכָלִי	יִשְׁמַע	אֲשַׁע	אֱלֹהֵי	וְאֶל-	יְהוָה	אֶקְרָא	אֲלֵי	בְּצַר-	6
اپنے پیکل سے	اُس نے سنا	میں فریاد کی	میرے خدا	اور کی طرف	یہوواہ کو	میں پکارا	میری	-تنگی میں	
<a href="#">H1964</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H7768</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7121</a>			
			בְּאָזְנוֹ:	תְּבוֹא	אֶלְפָּנָי	אֲשַׁעֲתִי	קוֹלִי		
			اُس کے کانوں میں	آئی	اُس کے سامنے	اور میری فریاد	میری آواز		
			<a href="#">H0241</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H7775</a>			

میری سنی، آواز میری سے گاہ سکونت اپنی نے اُس تو کی فریاد سے خدا اپنے لئے کے مدد نے میں پکارا۔ کو رب نے میں تو گیا پھنس میں مصیبت میں جب گئی۔ پہنچ تک کان کے اُس چیخیں

7	וַתִּנְעַשׂ	וַתִּרְעַשׂ	הָאָרֶץ	וּמוֹסְרֵי	הָרִים	יְרֵחוֹ	וַיִּתְנַעֲשׂוּ	כִּי-	תָרַח	לָו:
	اور-بلی	اور-کانبی	زمین	اور-بنیادیں	پہاڑوں-کی	لرزیں	اور-تھرتھرائیں	کیونکہ	غضبناک-ہوا	وہ
	<a href="#">H1607</a>	<a href="#">H7493</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4146</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H7264</a>	<a href="#">H1607</a>		<a href="#">H2734</a>	

لگیں۔ جھولنے اور کانپنے سامنے کے غضب کے رب بنیادیں کی پہاڑوں لگی، تھرتھرانے اور اُٹھی لرز زمین تب

8	עָלָה	ועָשָׂן	בְּאָפוֹ	וְאֵשׁ-	מִפִּי	תֹאכַל	וְחָלִים	בְּעָרוֹ	מִמְנוֹ:
	اُٹھا	دھواں	اُس-کی-ناک-سے	اور-آگ	اُس-کے-منہ-سے	کھاتی-تھی	کوئلے	بھڑکے	اُس-سے
	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H6227</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H1513</a>		

اُٹھے۔ بھڑک کوئلے دبتے اور شعلے والے کرنے بھسم سے منہ کے اُس آیا، نکل دھواں سے ناک کی اُس

9	וַיֵּט	שָׁמַיִם	וַיִּרְדּוּ	וַיַּעֲרֹפֵל	תַּחַת	רַגְלָיו:
	اور-اُس-نے-جھکائے	آسمانوں-کو	اور-اُترا	اور-گھنے-اندھیرے	-نیچے	اُس-کے-پاؤں-کے
	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H6205</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7272</a>

تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا نیچے کے پاؤں کے اُس تو آیا اُتر جب ہوا۔ نازل وہ کر جھکا کو آسمان

10	וַיִּרְכַּב	עַל-	כְּרוּב	וַיַּעֲفֹ	וַיִּנְדָּא	עַל-	כְּנָפָי-	רוּחַ:
	اور-وہ-سوار-ہوا	-پر	کروبی	اور-اُزا	اور-تیزی-سے-آیا	-پر	پروں	ہوا-کے
	<a href="#">H7392</a>		<a href="#">H3742</a>		<a href="#">H1675</a>		<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H7307</a>

لگا۔ منڈلانے پر پروں کے ہوا کر اُڑ اور ہوا سوار پر فرشتے کروبی وہ

11	יָשַׁת	וּחֻשָּׁד	סִתְרוּ	סְבִיבוֹתָיו	סִכָּתוֹ	חֲשַׁכְתָּ	מַיִם	עָבִי	שָׁחֲקִים:
	اُس-نے-بنایا	اندھیرہ-کو	اپنی-پناہ-گاہ	اُس-کے-چاروں-طرف	اُس-کا-خیمہ	اندھیرا	پانی-کا	گھنے	بادلوں-کے
	<a href="#">H7896</a>	<a href="#">H2822</a>		<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H5521</a>	<a href="#">H2824</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5645</a>	<a href="#">H7834</a>

لگائے۔ گرداگرد اپنے طرح کی خیمے بادل گھنے اور کالے کے بارش بنایا، جگہ کی چھینے اپنی کو اندھیرے نے اُس

12	מִזְנוֹהַ	נִדְרָו	עָבִיו	עָבְרוּ	בְּרָד	וַיַּחֲלִי-	אֵשׁ:
	-چمک-سے	اُس-کے-سامنے	اُس-کے-بادل	گزر-گئے	اولے	اور-کوئلے	آگ-کے
	<a href="#">H5051</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H5645</a>		<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H1513</a>	<a href="#">H0784</a>

آئے۔ نکل کر لے کوئلے زن شعلہ اور اولے بادل کے اُس سے روشنی تیز کی حضور کے اُس

13	וַיִּרְעַם	וּבְשָׁמַיִם	יְהִיזָה	וַעֲלִיזוֹן	יִתֵּן	קֶלֶוֹ	וַיַּחֲלִי-	אֵשׁ:
	اور-گرجا	-آسمانوں-میں	بہوواہ	اور-اعلیٰ-نے	دی	آواز	اور-کوئلے	آگ-کے
	<a href="#">H7481</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H1513</a>	<a href="#">H0784</a>

لگے۔ برسے کوئلے زن شعلہ اور اولے تب اُٹھی۔ گونج آواز کی تعالیٰ اللہ لگا، کڑکنے سے آسمان رب

14	וַיִּשְׁלַח	חֲצִי	וַיִּפְיֵם	וּבְרָקִים	רָב	וַיִּהְיֶם:
	اور-اُس-نے-بھیجے	اپنے-تیر	اور-بکھیر-دیا-اُنہیں	اور-بجلیاں	بہت	اور-گھبرا-دیا-اُنہیں
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H2671</a>			<a href="#">H7232</a>	<a href="#">H2000</a>

گئی۔ مچ چل بل میں اُن تو گئی گرتی ادھر ادھر بجلی تیز کی اُس گئے۔ ہو بتتر دشمن تو چلائے تیر اپنے نے اُس

15	וַיִּרְאוּ	אֲפִיקֵי	מַיִם	וַיִּנְדְּלוּ	מוֹסְדוֹת	תֵּבֵל	מִנְעֵרְתָךְ	יְהוָה	מִנְשַׁמֹּת
	اور-نظر-آئے	تہ	پانی-کے	اور-ظاہر-ہوئیں	بنیادیں	جہان-کی	تیری-ذانت-سے	اے-یہوواہ	-سانس-سے
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0650</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H4146</a>	<a href="#">H8398</a>	<a href="#">H1606</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5397</a>

رַיַח  
ہوا  
تیری-ناک-کے  
[H7307](#)  
[H0639](#)

آئیں۔ نظر بنیادیں کی زمین سے جھونکوں کے دم تیرے تو گرجا میں غصے تو جب ہوئیں، ظاہر وادیاں کی سمندر تو ڈانٹا نے تو رب، اے

16 **יְשׁוּעָה** **מְמַרְזֵם** **יִקְחֵנִי** **אֲמַנְשֵׁנִי** **מִמַּיִם** **רְבִים:**  
 اُس نے- بھیجا - اوپر سے - پکڑا- مجھے نکالا- مجھے - پانیوں سے - بہت  
[H7971](#) [H4791](#) [H3947](#) [H4871](#) [H4325](#)

لایا۔ نکال کر کھینچ سے میں پانی گہرے مجھے لیا، پکڑ مجھے نے اُس کر بڑھا ہاتھ اپنا سے پر بلندیوں

17 **יִצְיָלְנִי** **מֵאֵי** **דְשָׁמֵן** **עָזָה** **אֲמַנְנִי** **כִּי** **וְהַמְצוּטָה** **מִמֶּנִּי:**  
 بجایا- مجھے - میرے- دشمن سے - طاقتور اور- میرے- نفرت- کرنے- والوں سے - کیونکہ وہ- مضبوط- تھے - مجھ سے  
[H5337](#) [H0341](#) [H5794](#) [H8130](#) [H0553](#)

سکا۔ آ نہ غالب میں پر جن ہیں، کرتے نفرت سے مجھ جو سے اُن بجایا، سے دشمن زبردست میرے مجھے نے اُس

18 **יִקְדְּמוּנִי** **בַּיּוֹם** **אֵי** **וַיְהִי** **וְהָיָה** **לְמִשְׁעָן** **לִּי:**  
 وہ- سامنے- آئے- میرے - دن- میں میری- مصیبت- کے لیکن- بنا یہوواہ - سہارا میرے- لیے  
[H6923](#) [H3117](#) [H0343](#) [H1961](#) [H3068](#)

رہا۔ بنا سہارا میرا رب لیکن کیا، حملہ پر مجھ نے اُنہوں دن اُس گیا پھنس میں مصیبت میں دن جس

19 **וַיּוֹצֵאֵנִי** **לְמִדְבָּר** **יְחֻלְצֵנִי** **כִּי** **חַפְזָן** **בִּי:**  
 اور- نکالا- مجھے - کشادگی- میں بجایا- مجھے کیونکہ خوش- ہے - مجھ سے  
[H3318](#) [H4800](#)

تھا۔ خوش سے مجھ وہ کیونکہ دیا، چھٹکارا کر نکال سے جگہ تنگ مجھے نے اُس

20 **וַיִּמְלֵךְ** **יְהוָה** **כְּצִדְקָה** **כְּצִדְקָה** **אֲרִי** **וְיָשִׁיב** **לִּי:**  
 بدلہ- دیا- مجھے یہوواہ نے میری- راستبازی- کے - مطابق - پاکیزگی- کے - مطابق میرے- ہاتھوں- کے لوٹایا مجھے  
[H1580](#) [H3068](#) [H6664](#) [H1252](#) [H3027](#) [H7725](#)

ہے۔ دیتا برکت مجھے وہ لئے اِس ہیں، صاف ہاتھ میرے ہے۔ دیتا اجر کا بازی راست میری مجھے رب

21 **כִּי** **שָׁמַרְתִּי** **דְרָכַי** **וְהוּא** **וְלֹא** **רָשַׁעְתִּי** **מֵאַלְהֵי:**  
 کیونکہ میں نے- رکھا راستے یہوواہ کے اور- نہیں میں نے- شرارت- کی میرے- خدا- سے  
[H8104](#) [H1870](#) [H3068](#) [H3808](#) [H1252](#) [H0430](#)

ہوا۔ نہیں دُور سے خدا اپنے سے کرنے بدی میں ہوں، رہا چلتا پر راہوں کی رب میں کیونکہ

22 **כִּי** **כָל** **מִשְׁפָּטָיו** **לִנְדָה** **אֲסִיר** **מִנִּי:**  
 کیونکہ سارے اُس کے- فیصلے میرے- سامنے اور- اُس کے- فرائض نہیں میں- بناتا مجھ سے  
[H3605](#) [H4941](#) [H5048](#) [H2708](#) [H3808](#) [H5493](#)

کیا۔ نہیں رد کو فرمانوں کے اُس نے میں ہیں، رہے سامنے میرے احکام تمام کے اُس

23 **וְאֵלֵהֵי** **תְּמִים** **עִמּוֹ** **אֲשַׁתְּמֵר** **מֵעוֹנֵי:**  
 اور- میں- تھا کامل اُس کے- ساتھ اور- میں نے- بجایا- اپنے- آپ- کو میرے- گناہ- سے  
[H1961](#) [H8549](#) [H8104](#) [H5771](#)

ہوں۔ رہا باز سے کرنے گناہ رہا، بے الزام میں ہی سامنے کے اُس

24 **וַיִּשָׁב** **יְהוָה** **לִּי** **כְּצִדְקָה** **אֲסִיר** **לְנִי:**  
 اور- لوٹایا یہوواہ نے مجھے میری- راستبازی- کے - مطابق - پاکیزگی- کے - مطابق میرے- ہاتھوں- کے سامنے  
[H7725](#) [H3068](#) [H6664](#) [H1252](#) [H3027](#) [H5048](#)

עִינָיו:  
 اُس کی- آنکھوں- کے

ہوا۔ ثابت صاف پاک میں ہی سامنے کے آنکھوں کی اُس کیونکہ دیا، اجر کا بازی راست میری مجھے نے رب لئے اِس

25 **עִם-** **חֲסִיד** **תְּתַחֶסֶד** **עִם-** **נִבְר** **תְּמִים** **הַתְּמִים:**  
 -ساتھ دیندار-کے ٹو-وفاداری-دکھاتا-ہے -ساتھ آدمی کامل ٹو-کمال-دکھاتا-ہے  
[H2623](#) [H1399](#) [H8549](#) [H8552](#)

بے۔ الزام سلوک تیرا ساتھ کے اُس بے الزام جو ہے، کا وفاداری سلوک تیرا ساتھ کے اُس بے وفادار جو اللہ، اے

26 **עִם-** **נִבְר** **תְּתַבָּר** **וְעִם-** **עֲלֶיךָ** **תְּתַפְתָּל:**  
 -ساتھ پاک-کے ٹو-پاک-دکھاتا-ہے اور-ساتھ ٹیڑھے-کے ٹو-ٹیڑھا-دکھاتا-ہے  
[H1305](#) [H1305](#) [H6141](#) [H6617](#)

بے۔ کا رُوی کج بھی سلوک تیرا ساتھ کے اُس بے رُک جو لیکن ہے۔ پاک سلوک تیرا ساتھ کے اُس بے پاک جو

27 **כִּי-** **אֲתָה** **עִם-** **עֲנִי** **תּוֹשִׁיעַ** **וְעֵינַיִם** **רְמוֹת** **תִּשְׁפִּיל:**  
 کیونکہ ٹو قوم-کو مسکین بچاتا-ہے اور-آنکھوں-کو مغرور ٹو-نیچا-کرتا-ہے  
[H6041](#) [H3467](#) [H8213](#)

بے۔ کرتا پست کو آنکھوں مغرور اور دیتا نجات کو حالوں پست ٹو کیونکہ

28 **כִּי-** **אֲתָה** **תְּאִיר** **נְרִי** **יְהוָה** **אֱלֹהֵי** **יְנִידָה** **חֲשָׁכִי:**  
 کیونکہ ٹو روشن-کرتا-ہے میرا-چراغ یہوواہ میرے-خدا روشن-کرتا-ہے میرے-اندھیرے-کو  
[H0215](#) [H3068](#) [H0430](#) [H5050](#) [H2822](#)

بے۔ کرتا روشن کو اندھیرے میرے ہی خدا میرا جلاتا، چراغ میرا ہی ٹو رب، اے

29 **כִּי-** **בָדָד** **אֶרְצָן** **נְדָרֶיךָ** **וּבְאֵלֵהֶיךָ** **אֶדְרָגֶנּוּ** **שׁוֹר:**  
 کیونکہ تجھ-سے میں-دوڑتا-ہوں فوج-پر اور-اپنے-خدا-سے میں-پھاندتا-ہوں دیوار  
[H7323](#) [H1416](#) [H0430](#) [H1801](#)

ہوں۔ سکتا پھلانگ کو دیوار ساتھ کے خدا اپنے سکتا، کر حملہ پر دستے فوجی میں ساتھ تیرے کیونکہ

30 **הָאֱלֹהִים** **תְּמִים** **דְּרָכָו** **אֲמַרְתָּ-** **יְהוָה** **צְרוּפָה** **מִגֵּן** **הוּא** **וְלִכְלֵ** **הַחֲסִים**  
 -خدا کامل اُس-کی-راہ کلام یہوواہ-کا پرکھا-ہوا ڈھال وہ سب-کے-لیے پناہ-لینے-والوں  
[H0410](#) [H8549](#) [H1870](#) [H3068](#) [H6884](#) [H4043](#) [H1931](#) [H3605](#) [H2620](#)

**בּוֹ:**  
 اُس-میں

بے۔ ڈھال وہ کی اُس لے پناہ میں اُس بھی جو ہے۔ خالص فرمان کا رب ہے، کامل راہ کی اللہ

31 **כִּי** **מִי** **אֱלֹהֵי** **מִבְלַעַדֵי** **יְהוָה** **וּמִי** **צֹר** **זוֹלָתִי** **אֱלֹהֵינוּ:**  
 کیونکہ کون خدا -سوائے اور-کون یہوواہ-کے اور-کون چٹان -سوائے ہمارے-خدا-کے  
[H4310](#) [H0433](#) [H1107](#) [H3068](#) [H4310](#) [H6697](#) [H2108](#) [H0430](#)

بے؟ چٹان کون سوا کے خدا ہمارے ہے؟ خدا کون سوا کے رب کیونکہ

32 **הָאֱלֹהִים** **הַמְּאֲזֵרֵנִי** **חֵיל** **וַיִּתֵּן** **תְּמִים** **דְּרָכֵי:**  
 -خدا-کمر-باندھنے-والا-میری طاقت-سے اور-دیتا-ہے کامل میری-راہ  
[H0410](#) [H0247](#) [H2428](#) [H5414](#) [H8549](#) [H1870](#)

بے۔ دیتا کر کامل کو راہ میری وہ کرتا، کمر بستہ سے قوت مجھے اللہ

33 **מְשֻׁנָּה** **רְגְלֵי** **כְּאֵילוֹת** **וְעַל** **כְּמֹתַי** **יַעֲמִידֵנִי:**  
 برابر-کرنے-والا میرے-پاؤں -برنیوں-کے-مانند اور-پر میری-بلندیوں کھڑا-کرتا-ہے-مجھے  
[H7272](#) [H0355](#) [H1116](#) [H5975](#)

بے۔ کرتا کھڑا پر بلندیوں میری سے مضبوطی مجھے کرتا، عطا پُھرتی سی کی برن کو پاؤں میرے وہ

34	מְלֻמָּד	יָדִי	לְמִלְחָמָה	וְנִחַתָּה	קִשְׁת־	בְּחֹנֶשֶׁת	זְרוּעֹתַי:
	سکھانے والا	میرے ہاتھوں کو	-جنگ کے لیے	اور-جھکا دیتی ہے	کمان	پیتل کی	میرے بازو
	<a href="#">H3925</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H5181</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H5154</a>	<a href="#">H2220</a>

ہیں۔ لیتے تان بھی کو کمان کی پیتل بازو میرے اب ہے۔ دیتا تربیت کی کرنے جنگ کو ہاتھوں میرے وہ

35	וַתִּתֵּן	לִי	מִנֵּן	יִשְׁעָךָ	וַיִּמְיֶנֶךָ	תִּסְעָדֵנִי	וַעֲנוּתְךָ	תִּרְבֵּנִי:
	اور-ٹو-نے-دی	مجھے	ڈھال	تیری-نجات-کی	اور-تیرا-دایا-ہاتھ	سہارتا-ہے-مجھے	اور-تیرا-حلم	بڑھاتا-ہے-مجھے
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H5582</a>	<a href="#">H6037</a>	<a href="#">H6037</a>	

ہے۔ دیا بنا بڑا مجھے نے نرمی تیری رکھا، قائم مجھے نے ہاتھ دہنے تیرے ہے۔ دی بخش ڈھال کی نجات اپنی مجھے نے ٹو رب، اے

36	תִּרְחִיב	צַעֲדֵי	תַּחְתֵּי	וְלֹא	מִפְעֹדוֹ	קִרְסָלָי:
	چوڑا-کرتا-ہے	میرا-قدم	میرے-نیچے	اور-نہیں	پھسلے	میرے-ٹخنے
	<a href="#">H7337</a>	<a href="#">H6806</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4571</a>	<a href="#">H7166</a>

ڈگمگاتے۔ نہیں ٹخنے میرے لئے اس ہے، دیتا بنا راستہ لئے کے قدموں میرے ٹو

37	אֶרְדֹּף	אֲזִיבִי	וְאֲשִׁיגֶם	וְלֹא	אָשׁוּב	עַד-	כְּלֹאֲתָם:
	میں-پیچھا-کروں-گا	میرے-دشمنوں-کا	اور-پا-لوں-گا-انہیں	اور-نہیں	لوٹوں-گا	-تک	انہیں-ختم-کرنے
	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3615</a>

گئے۔ ہو نہ ختم وہ تک جب آیا نہ باز میں لیا، پکڑ انہیں کے کر تعاقب کا دشمنوں اپنے نے میں

38	אֶמְחֶצֵם	וְלֹא-	יִכְלוּ	קָדָם	אֶפְלוּ	תַּחַת	רַגְלָי:
	میں-کچل-دوں-گا-انہیں	اور-نہیں	وہ-کھڑے-ہو-سکتے	اٹھ	وہ-گریں-گے	-نیچے	میرے-پاؤں-کے
	<a href="#">H4272</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>		<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7272</a>

رے۔ پڑے تلے پاؤں میرے کر گر بلکہ سکے نہ اٹھ دوبارہ کہ دیا کر پاش پاش یوں انہیں نے میں

39	וַתִּאֲזַרְנִי	חַיִל	לְמִלְחָמָה	תַּחְרִיעַ	קִמְנִי	תַּחְתֵּי:
	اور-ٹو-نے-کمر-باندھی-میری	طاقت-سے	-جنگ-کے-لیے	ٹو-نے-گرایا	انہنے-والوں-کو-میرے-خلاف	میرے-نیچے
	<a href="#">H0247</a>	<a href="#">H2428</a>	<a href="#">H4421</a>	<a href="#">H3766</a>		<a href="#">H8478</a>

دیا۔ جھکا سامنے میرے کو مخالفوں میرے نے ٹو دیا، کر کمر بستہ سے قوت لئے کے کرنے جنگ مجھے نے ٹو کیونکہ

40	וְאִיִּבִי	נִתְתָּה	לִי	עָרְף	וּמְשָׁנָאִי	אֲצַמִּיתָם:
	اور-میرے-دشمنوں-کی	ٹو-نے-دی	مجھے	پینٹھ	اور-میرے-نفرت-کرنے-والوں-کو	میں-خاموش-کر-دوں-گا
	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H6203</a>	<a href="#">H8130</a>	<a href="#">H6789</a>

دیا۔ کر تباہ کو والوں کرنے نفرت نے میں اور دیا، بھگا سے سامنے میرے کو دشمنوں میرے نے ٹو

41	יִשְׁוְעוּ	וְאִיִּז-	מוֹשִׁיעַ	עַל-	יְהוָה	וְלֹא	עָנָם:
	وہ-چلاتے-ہیں	لیکن-نہیں-ہے	بچانے-والا	پر	یہوواہ	لیکن-نہیں	جواب-دیا-انہیں
	<a href="#">H7768</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3467</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3808</a>	

دیا۔ نہ جواب نے اُس لیکن رہے، پکارتے کو رب وہ تھا۔ نہیں کوئی والا بچانے لیکن رہے، چلاتے پیختے لئے کے مدد وہ

42	וְאֲשַׁחֲקֶם	כַּעֲפָר	עַל-	פְּנֵי-	רַגְלֶךָ	כְּטִיט	חוֹצוֹת	אֲרִיקָם:
	اور-میں-پیسوں-گا-انہیں	-خاک-کی-مانند	پر	منہ	ہوا-کے	-کیچڑ-کی-مانند	گلیوں-کے	میں-ڈالوں-گا-انہیں
	<a href="#">H7833</a>	<a href="#">H6083</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H2916</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H7324</a>

دیا۔ پھینک میں گلی طرح کی کچرے انہیں نے میں دیا۔ اڑا میں ہوا طرح کی گرد کے کر چور چور انہیں نے میں

43	תַּפְלִיטִי	מִרְיָי	עָם	הַשִּׁימֹנִי	לְרֹאשׁ	גֹּזִים	עָם	לֹא-	יִדְעָתִי
	بجاتا ہے-مجھے	جھگڑوں سے	قوم کی	بناتا ہے-مجھے	-سردار	قوموں-کا	قوم	نہیں	میں نے-جانا
	<a href="#">H6403</a>	<a href="#">H7379</a>					<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3045</a>

یَعْبُدוּנִי:

خدمت-کرے-گی-میری  
[H5647](#)

ہے۔ کرتی خدمت میری وہ تھا ناواقف میں سے قوم جس ہے۔ دیا بنا سردار کا اقوام کر بجا سے جھگڑوں کے قوم مجھے نے تو

44	לְשִׁמְעוּ	אֲזִן	יִשְׁמְעוּ	לִי	בְּנֵי-	יִבְחָשׁוּ-	לִי:
	-سننے-پر	کان-سے	وہ-سنیں-گے	میری	بیٹے	اجنبیوں-کے	خوشامد-کریں-گے
	<a href="#">H0241</a>		<a href="#">H8085</a>			<a href="#">H5236</a>	<a href="#">H3584</a>

ہیں۔ کرتے خوشامد میری کر دیک پر دیسی ہیں۔ سنتے میری لوگ تو ہوں کرتا بات میں ہی جوں

45	בְּנֵי-	יָבֹר	יִחַרְזוּ	מִמְסַנְדֵי תִּיהֶם:
	بیٹے	اجنبیوں-کے	مرجھائیں-گے	اور-کانبیں-گے
	<a href="#">H5236</a>		<a href="#">H2727</a>	<a href="#">H4526</a>

ہیں۔ آتے نکل سے قلعوں اپنے ہوئے کانپتے کر بار ہمت وہ

46	חַי-	יְהוָה	וּבְרֹחַ	צוּרֵי	יְרוּם	אֱלֹהֵי	יִשְׁעֵי:
	زندہ	یہوواہ	اور-مبارک	میری-چٹان	اور-سرفراز-بو	خدا	میری-نجات-کا
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H6697</a>		<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H3468</a>	

ہو! تعظیم کی خدا کے نجات میری ہو! تمجید کی چٹان میری ہے! زندہ رب

47	הָאֵל	הַנּוֹתֵן	נִקְמֹת	לִי	וַיִּדְבֵּר	עַמִּים	תַּחֲתָי:
	-خدا	دینے-والا	انتقام	مجھے	اور-مخضوع-کرنے-والا	قوموں-کو	میرے-نیچے
	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5360</a>		<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H8478</a>

دیتا کر تابع میرے کو اقوام لیتا، انتقام میرا جو ہے خدا وہی

48	מִפְלִיטִי	מֵאֵיבֵי	אֶרֶץ	מִן-	קָמִי	תְּרוֹמֹמֹנִי	מֵאִישׁ
	میرا-چھڑانے-والا	-میرے-دشمنوں-سے	بے-شک	سے	اُٹھنے-والوں-میرے-خلاف	تُو-سرفراز-کرتا-ہے-مجھے	-آدمی-سے
	<a href="#">H6403</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H0637</a>				<a href="#">H0376</a>

תְּצַלֵּנִי:  
ظالم  
تُو-بجاتا-ہے-مجھے  
[H5337](#)  
[H2555](#)

ہے۔ رکھتا بچائے سے ظالموں مجھے کرتا، سرفراز پر مخالفوں میرے مجھے تُو یقیناً ہے۔ دیتا چھٹکارا سے دشمنوں میرے مجھے اور

49	עַל-	וְכֵן	אֲדַבֵּר	וּבְגֹזִים	יְהוָה	וּלְשִׁמְעָה	אֲזַמְרָה:
	پر	اس-لیے	میں-شکر-کروں-گا-تیرا	-قوموں-میں	اے-یہوواہ	اور-تیرے-نام-کے-لیے	میں-گاؤں-کا
			<a href="#">H3034</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H2167</a>

گا۔ گاؤں گیت میں تعریف کی نام تیرے گا، کروں ثنا و حمد تیری میں اقوام میں لئے اس رب، اے

50	מְגִדָּל	(מְגִדָּל)	יְשׁוּעוֹת	מְלָכֹו	וְעֵשָׂה	וְחֹסֵד	לְמִשִּׁיחוֹ	לְדָוִד
	بڑی-کرنے-والا	بڑی-کرنے-والا	نجات	اپنے-بادشاہ-کی	اور-دکھانے-والا	شفقت	اپنے-مسیح-پر	داؤد
	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3444</a>	<a href="#">H4428</a>			<a href="#">H4899</a>	<a href="#">H1732</a>

וְלִזְרַעוֹ  
اور-اُس-کی-نسل  
-تک  
بمیشہ  
[H2233](#)  
[H5704](#)  
[H5769](#)

گا۔ رہے مہربان تک ہمیشہ پر اولاد کی اُس اور داؤد بادشاہ ہوئے کئے مسح اپنے وہ ہے، دیتا نجات بڑی کو بادشاہ اپنے رب کیونکہ